

کینیڈا کے نئے شہریوں کے لئے
ووٹ ڈالنے کی معلومات





الیکشنز مینی ٹوبا آپ کو کینیڈا
کا نیا شہری بننے پر مبارکباد پیش کرتا ہے!

کون ووٹ دے سکتا ہے

آپ ووٹ دے سکتے ہیں اگر:

- آپ کینیڈا کے شہری ہیں
- الیکشن والے دن آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے اور
- الیکشن والے دن سے کم از کم 6 مہینے پہلے تک مینی ٹوبا میں رہائش پذیر رہے ہیں

ووٹ کیوں دیا جائے؟

- ووٹ تمام اہل ووٹرز کا جمہوری حق ہے
- ووٹ دینا جمہوریت میں پر جوش حصہ لینے کا ایک طریقہ ہے
- ووٹ دینا آپ کو اپنی کمیونٹی کو سنوارنے کا ایک موقع ہے

ووٹنگ مینی ٹوبا میں :

- آزادانہ، منصفانہ، محفوظ اور سب کی دسترس میں ہے
- اسے کینیڈا کے چارٹر آف رائٹس اور فریڈم کی سرپرستی حاصل ہے
- آپ کا فیصلہ ہے
- خفیہ ہے، کسی کو معلوم نہیں ہو گا کہ آپ نے کسے ووٹ دیا ہے

مجھے ووٹ کے اندراج کے لئے کیا کرنا ہے؟


یہ دیکھنے کے لئے کہ آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں :

- اس آن لائن ووٹر رجسٹریشن سروس پر جائیے electionsmanitoba.ca
- 204-945-3225 ، ٹال فری 1-866-628-6837 پر کال کریں

اگر آپ رجسٹر ہو گئے ہیں، آپ ووٹ دے سکتے ہیں -

- جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا آپ کو ایک ووٹر انفارمیشن کارڈ بھیج دیا جائے گا
- ووٹر انفارمیشن کارڈ میں درج ہوگا کہ آپ کہاں اور کب ووٹ ڈال سکتے ہیں
- جب آپ ووٹ ڈالنے آئیں تو اپنا ووٹر انفارمیشن کارڈ ساتھ لے کر آئیں

اگر آپ رجسٹر نہیں ہوئے یا جگہ بدل چکے ہیں تب بھی آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں - اپنا ID ہمراہ ضرور لے کر آئیں



ID کے ذریعے ووٹ ڈالنا

ہر کسی کو لازمی اپنا ID دکھانا پڑے گا یا

- گورنمنٹ کا جاری کردہ ایک فوٹو والا ID جیسے ڈرائیونگ لائسنس یا
- دو ID's جیسے ہیلتھ کارڈ، یوٹیلیٹی بل، بنک یا ڈیپٹ کارڈ

آپ کا ووٹر انفارمیشن کارڈ ایک ID کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ID قابل قبول ہیں، مکمل فہرست کے لئے electionsmanitoba.ca وزٹ کیجئے

واؤچنگ

- اگر آپ ووٹ کے لئے رجسٹرڈ ہیں لیکن کوئی ID نہیں رکھتے آپ کے حلقے کا کوئی ID رکھنے والا ووٹر آپ کے لئے vouch کر سکتا ہے واؤچنگ کی اجازت صرف الیکشن کے دن کے لئے ہے، پہلے سے ووٹ ڈالنے کے لئے اس کی اجازت نہیں

میں کب ووٹ ڈال سکتا ہوں؟

آپ کو اختیار ہے، پیشگی ووٹ کا:

- پیشگی ووٹنگ الیکشن سے 12 دن پہلے شروع ہوتی ہے اور 8 دن تک جاری رہتی ہے، جمعرات سے لے کر جمعرات تک
- قریب ترین پیشگی ووٹنگ کی جگہ معلوم کرنے کے لئے ویب سائٹ وزٹ کیجئے
- آپ مینی ٹوبا میں کسی بھی پیشگی ووٹنگ کی جگہ پر ووٹ ڈال سکتے ہیں

الیکشن کے دن ووٹنگ

- ووٹ کہاں ڈالنا ہے یہ معلوم کرنے کے لئے اپنے ووٹر انفارمیشن کارڈ کو پڑھئے یا ویب سائٹ وزٹ کیجئے
- آپ صرف اپنی مقررہ جگہ پر ہی ووٹ ڈال سکتے ہیں

ووٹ ڈالنے کے دیگر طریقے

گھر سے ووٹ ڈالنا :


- اگر آپ کسی معذوری کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں جاسکتے تو آپ گھر ہی میں ووٹنگ کے لئے درخواست کر سکتے ہیں۔ آپ کے تیماردار کو بھی اس بات کی اجازت ہے
- الیکشن مینی ٹوبا سے درخواست فارم مل سکتے ہیں

مینی ٹوبا کے باہر سے ووٹ ڈالنا:

- اگر آپ ایڈوانس ووٹنگ کے دوران اور الیکشن کے دن باہر ہونگے تو آپ غیر حاضر ووٹنگ کی درخواست دے سکتے ہیں -
- آپ لازمی طور پر الیکشن سے قبل ہفتے کے دن شام 8 بجے تک درخواست دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ جلدی درخواست دیں تاکہ الیکشن کٹ آپ کو وقت پر مل جائے -

ہسپتالوں اور دیگر دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں ووٹ ڈالنا :

- ہسپتالوں اور دیگر دیکھ بھال کرنے والے اداروں میں بھی ووٹنگ کے دن ووٹنگ سٹیشنز قائم کئے جائیں گے



گورنمنٹ کی سطحیں

- گورنمنٹ کی تین سطحوں کا مطلب ہے کہ تین مختلف قسم کے الیکشن : فیڈرل، پروونشل اور میونسپل
- ہر سطح کی گورنمنٹ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، درج ذیل اس کی چند مثالیں ہیں

علاقائی	پروونشل	فیڈرل
<ul style="list-style-type: none"> • کوڑا کرکٹ ٹھکانے لگانا • پانی اور نکاسی آب • آتشزدگی اور پولیس کے محکمے • باغات • لائبریریز 	<ul style="list-style-type: none"> • ہیلتھ کیئر • تعلیم • نقل و حمل اور شاہراہیں • ڈرائیونگ لائسنس • سوشل امداد 	<ul style="list-style-type: none"> • ڈیفنس • انکم ٹیکس • ایروپورٹس • شہریت اور امیگریشن • پاسپورٹ • پوسٹل سروس

میں کس کو ووٹ دے سکتا ہوں ؟

- مینی ٹوبا 57 علاقوں یا الیکٹورل ڈویژنوں میں تقسیم ہے، آپ اپنے ووٹ سے اپنی الیکٹورل ڈویژن کے نمائندے کو چنتے ہیں
- جس نمائندے کو آپ کی الیکٹورل ڈویژن سے سب سے زیادہ ووٹ ملتے ہیں وہ لیجسلیٹو اسمبلی میں آپ کا ممبر منتخب ہو جاتا ہے
- یہ معلوم کرنے کے لئے کہ آپ کس الیکٹورل ڈویژن میں رہتے ہیں اور کون کون امیدوار ہیں - elections-manitoba.ca کو وزٹ کریں یا ہم سے رابطہ کریں
- جن امیدواروں کو آپ چن سکتے ہیں ان سب کے نام آپ بیلٹ پر لکھے ہوئے پائیں گے

کیا میں انتخابات میں کام کر سکتا ہوں؟

الیکشن مینی ٹوبا انتخابات سے پہلے اور اسکے دوران عملے کو نوکری دیتا ہے۔ کام اور تربیت کی اجرت دی جاتی ہے۔ اگر آپکو مزید معلومات چاہئے تو آپ electionsmanitoba.ca پر رابطہ کر سکتے ہیں۔



آپ ووٹ دیتے وقت اپنے
بچوں کو ساتھ لا
سکتے ہیں..
بچوں کو ایک سٹکر ” آفیشل
مستقبل کے ووٹر“ دیا جائے گا؛

رابطہ کریں۔

electionsmanitoba.ca

فون۔ 204-945-3225

مینی ٹوبا میں ٹول فری 1-866-628-6837

ای میل election@elections.mb.ca



الیکشنز مینی ٹوبا لیجسلیٹو اسمبلی کا ایک خود مختار دفتر ہے
جسکی ذمہ داری تمام پروونشل الیکشنز کرانا ہے -